



## شیخ محمد ابراہیم ذوق

(1788 – 1854)

ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے انہیں 'ملک اشعرا' اور 'خاقانی ہند' کے خطابات دیے۔ ذوق نے کئی اصناف میں اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی اصل پہچان قصیدہ نگاری ہے بالخصوص بہادر شاہ ظفر پر لکھے ہوئے قصائد کا مرتبہ بلند ہے۔ لیکن وہ غزل کے بھی ایک قابل ذکر شاعر ہیں۔

ذوق نے اپنے کلام میں نیا پن پیدا کرنے اور زبان اور محاورے کی صفائی پر خاص توجہ دی ہے۔



5022CH11

## غزل

لائی حیات، آئے، قضا لے چلی، چلے  
ہو عمرِ خضر بھی تو کہیں گے بہ وقتِ مرگ  
ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بد قمار  
بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے  
اپنی خوشی نہ آئے، نہ اپنی خوشی چلے  
ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے، ابھی چلے  
جو چال ہم چلے سو نہایت بُری چلے  
پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے

نازاں نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے ہو وہی

دانش تری، نہ کچھ مری دانش وری چلے

(شیخ محمد ابراہیم ذوق)

## مشق

● معنی یاد کیجیے:

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| حیات     | : | زندگی          |
| قضا      | : | موت            |
| عمرِ خضر | : | مرادِ لمبی عمر |
| مرگ      | : | موت            |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| بساط       | : | وہ خانے دار کپڑا جو چوسر یا شطرنج کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے |
| بدقمار     | : | نا کام جواری  |
| نازاں ہونا | : | ناز کرنا، فخر کرنا  |
| خرد        | : | عقل   |
| دانش       | : | سمجھ بوجھ   |
| دانش وری   | : | ہوشیاری، سمجھ داری، زیادہ علم رکھنا                                 |

### ● غور کیجیے:

اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ ”چلے“ آیا ہے۔ اسے ردیف کہتے ہیں۔  
 ”چلے“ ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، بُری اور دل لگی جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انھیں تافیہ کہتے ہیں۔

### ● سوچیے اور بتائیے:

- 1- پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟
- 2- ”ابھی آئے، ابھی چلے“ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
- 3- دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟
- 4- شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟

### ● نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے:

حیات      خوشی      بہتر      مرگ      بُری

### ● عملی کام:

☆ اس غزل کو یاد کیجیے۔